

5th India-Malaysia Foreign Office Consultations (FOC)

April 12, 2022

ہندوستان-ملائیشیا کے مابین دفتر خارجہ سے متعلق 5ویں مشاورت

12 اپریل، 2022

ہندوستان کی وزارت خارجہ میں سکرپٹری (مشرق) جناب سوربھ کمار اور ملائیشیا کی وزارت خارجہ کے دو طرفہ امور کے ڈپٹی سکرپٹری جنرل داتو امران بن محمد زن نے 12 اپریل 2022 کو پتراجایا، ملائیشیا میں ہندوستان اور ملائیشیا کے درمیان 5ویں دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت (دو طرفہ مشاورت) کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔

2- دورے کے دوران، سکرپٹری (مشرق) نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ عزت مآب داتو سری سیف الدین عبداللہ سے بھی ایک بشکریہ ملاقات کی اور ہندوستان-ملائیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔

3- دفتر خارجہ کی مشاورت کے دوران ہندوستان اور ملائیشیا کے درمیان کثیر جہتی تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے، دونوں فریقین نے 2015 کے بہتر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فریم ورک کے اندر مجموعی دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ دفتر خارجہ کی مشاورت نے دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے اور باہمی دلچسپی کے عصری علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔

4- دونوں فریقین نے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید تیز کرنے کے لیے دونوں فریقوں کے مشترکہ عزم کو مدنظر رکھتے ہوئے کووڈ کے بعد کے عرصے میں تعلقات کی تیزی سے بحالی کی امید کا اظہار کیا۔

5- دونوں فریقین نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ میکانزم کو دوبارہ فعال کرنے، اور باہمی طور پر مناسب تاریخ پر منعقد ہونے والی وزارتی سطح کی مشترکہ کمیشن کی اگلی میٹنگ میں نتائج پیش کرنے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔

6- چونکہ اس سال سفارتی تعلقات کے قیام کے 65 سال مکمل ہو رہے ہیں، دونوں فریقین نے ہندوستان اور ملائیشیا دونوں میں مناسب انداز میں یادگاری تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

7- دفتر خارجہ سے متعلق اگلی مشاورت نئی دہلی میں باہمی طور پر مناسب تاریخ پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

نئی دہلی

12 اپریل، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.